

مجلس از دیادِ حُسب

(مجتبتیں بڑھانے والی مجلس)

کے 15 مدنی پھول

”محبتیں اور بڑھاؤ“ کے 15 حروف کی نسبت سے مجلس از دیادِ حُب (محبتیں بڑھانے والی مجلس) کے 15 مدنی پھول

فرا مینِ امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ:

● ملنساری انفرادی کوشش کی رُوح ہے ● انفرادی کوشش کے دوران حکایات و روایات سنا کر ذہن بنائیے۔ آپ کا کام سمجھانا ہے منوانا نہیں ● مگر مجوشی کے ساتھ ملنا، خاموشی کے منافی نہیں ● ہر ایک کو خوش مزاج بننا چاہئے اور ضرورتاً سنجیدہ بھی ● اگر ہم مدنی ماحول میں بندھ جائیں گے تو کام کرنا سیکھ جائیں گے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

مدنی انعام نمبر 55: کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو (جو پہلے مدنی ماحول میں تھے گمراہ نہیں آتے) تلاش کر کے اُن کو **مدنی ماحول سے وابستہ** کرنے کی کوشش کی؟ (گمراہ جس پر تنظیمی پابندی ہو، اُسے نہ چھیڑیں)

● **1** ● فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے: نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵) اس لیے مجلس از دیادِ حُب کا ہر ذمہ دار امیرِ اہلسنت

دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ میں سے ”مدنی انعام نمبر 1“ پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ: ”میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوتِ اسلامی کے شعبے ”مجلس از دیادِ حُب“ کا مدنی کام، مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کروں گا، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔“

● **2** ● اس مجلس کے قیام کا مقصد شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے ”مدنی انعام نمبر 55“ کو باقاعدہ تنظیمی طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے گلشن عطار کے بکھرے ہوئے پھولوں کو حُسنِ اخلاق، نرمی و محبت و شفقت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر یکجا کر کے انہیں مدنی ماحول میں فعال (Active) کر کے ”مسجد بھر و تحریک“ میں شامل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

● **3** ● مجلس از دیادِ حُب کے تمام اسلامی بھائی رشوت، تعلقات اور مُدَاہَنَت (مُدَاہَنَت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔ ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد) (اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود) اسے نہ روکنا اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مُدَاہَنَت کہلاتا ہے یا کسی بھی ذہنی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مُدَاہَنَت ہے) کے شرعی مسائل سیکھیں، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ مفید ہے مثلاً: فیضانِ سنت صفحہ 539 تا صفحہ 554 ☆ کفریہ کلمات کے بارے میں

سوال جواب صفحہ 428 تا 449 ☆ بہار شریعت، جلد سوم، حصہ 16 ☆ نیز فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 311 تا صفحہ 331

☆ باطنی بیماریوں کی معلومات اور ”دارالافتاء اہلسنت“ سے ضرورتاً شرعی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔

﴿4﴾ اس مجلس کے تحت مختلف مدنی کاموں کی ترکیب ہوگی مثلاً

﴿1﴾ وہ پُرانے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے مگر اب نہیں آتے، ان کی ڈویژن سطح پر فہرست مرتب کرنا۔

﴿2﴾ ان سے پیشگی وقت لے کر (یا جسے مناسب ہو) انفرادی طور پر ڈکان، دفن یا گھر جا کر ان سے ملاقات کریں اور شیخ طریقت، امیر

اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات، آپ کے کتب و رسائل و مدنی مذاکروں کی اہمیت و افادیت اور دعوتِ اسلامی کے ترقیاتی

کام مثلاً تقریباً 92 سے زائد شعبہ جات اور کم و بیش 192 ممالک میں مدنی پیغام کا پہنچانا وغیرہ کی تفصیلات سے مختصراً آگاہ کریں۔

﴿3﴾ ان کو ہفتہ وار اجتماعات / بڑی راتوں کے اجتماعات مثلاً اجتماع میلاد و جلوس میلاد، اجتماع غوثیہ، شبِ معراج، شبِ برأت

، شبِ قدر / ہفتہ وار مدنی مذاکرہ (عاشورہ کے 10، بارہویں کے 12، گیارہویں کے 11 اور ذوالحجہ کے 10 مدنی مذاکرے) / اجتماع ذکر و نعت /

مناجات افطار پورے ماہ رمضان / آخری عشرے کا اعتکاف، 12 روزہ مدنی کورس وغیرہ کی ترغیب دلانا۔

﴿4﴾ اراکین شوریٰ، مگر ان کا بیہنا / مگر ان کا بیہنا کے مدنی مشوروں میں گھر سے بلا کر ساتھ لانا اور مدنی مشورے / اجتماع

وغیرہ میں ساتھ رکھنا اور بعد میں ذمہ داران سے ملاقات کروانا، ذمہ داران سے حوصلہ افزائی کی ترکیب کروانا۔

﴿5﴾ ان کے کا بیہنا، ڈویژن ذمہ داران سے رابطے کروانا، کوئی مدنی کام دینا (متعلقہ مگر ان کا بیہنا / مگر ان ڈویژن مشاورت / مگر ان علاقائی مشاورت کی

باہمی مشاورت سے تنظیمی ذمہ داری دی جائے مگر یاد رہے! ذمہ داری اسی صورت میں دی جائے جب کہ یہ اس کام کے اہل ہوں قبول کریں اور وقت دینے کے لیے تیار

ہوں، اولاً ہی کوئی بڑی ذمہ داری نہ دی جائے بلکہ ابتداءً کسی مجلس کارکن یا کسی ذیلی حلقے کی ذمہ داری دی جائے پھر ان کی استقامت، وقت دینا، اچھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے

پھر بڑی ذمہ داری بھی دی جاسکتی ہے، یہ بھی یاد رہے! کہ ذمہ داری اسی وقت دی جائے جبکہ ان کے سابقہ دانستہ یا نادانستہ غیر شرعی / غیر تنظیمی معاملات ٹھیک ہو چکے ہوں)۔

ان کی صلاحیت اور تنظیمی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف شعبہ جات کی مجالس وغیرہ میں شامل کرنا۔

﴿6﴾ مدنی قافلوں میں سفر کروانا، مختلف مواقع پر ہونے والے تربیتی اجتماعات و کورسز (مدنی تربیتی کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ

کورس، 12 روزہ مدنی کورس) وغیرہ میں شرکت کروانا۔

﴿7﴾ ان کے گھروں میں مدنی حلقے کی ترکیب رکھ کر کم از کم 12 ایسے اسلامی بھائیوں کو جمع کرنا جو پہلے آتے تھے مگر اب نہیں آتے۔

﴿8﴾ انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کروانا۔

﴿9﴾ مدنی عطیات بالخصوص ماہِ رجب، شعبان، رمضان المبارک میں زکوٰۃ و فطرہ اور ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ میں قربانی

کی کھالیں جمع کرنے کی ترغیب دِلانا۔

﴿۱۰﴾ ان اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں عملی شرکت کے مختلف مواقع (مثلاً مدنی قافلوں میں سفر، عمامہ شریف سجانا، مختلف مدنی کاموں میں عملی طور پر شمولیت کے اظہار کی اچھی اچھی تہیں وغیرہ) پر مدنی چینل ریلے مجلس کے ذمہ داران کی معاونت سے حسبِ موقع اچھے تاثرات ریکارڈ کرنے کی بھی ترکیب کی جائے تو مدینہ مدینہ۔۔۔۔۔

﴿۱۱﴾ ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے، بیماری یا فوتگی کی صورت میں عیادت اور تعزیت کی ترکیب ہو، ولادت، نوکری وغیرہ خوشی ملنے کی صورت میں مبارکباد، حوصلہ افزائی، دلجوئی کی ترکیب ہو۔

﴿۱۲﴾ وقتاً فوقتاً مدنی چینل کے سلسلوں کا جدول بھیجنا (Sms)، خصوصاً مدنی مذاکرہ، نگران شوریٰ کے بیانات و مدنی مکالمے وغیرہ دیکھنے کی ترغیب دِلانا۔

﴿۱۳﴾ مشکلات میں مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی ترکیب، ان کے مدنی مٹوں اور مدنی مٹیوں کو جامعۃ المدینہ، مدرستہ المدینہ، دارالمدینہ میں داخل کروانے کی ترغیب دِلانا۔

﴿۱۵﴾ 72 مدنی انعامات میں انتہائی قابلِ توجہ، مدنی انعام نمبر 26: ”کسی ذمے دار (یا عام اسلامی بھائی سے) برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہِ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عَزَّوَجَلَّ بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟“۔

﴿۱۶﴾ یاد رہے! دورانِ ملاقات، غیبت سننے سے بچنا ہے، امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ”غیبت کی تباہ کاریاں“ صفحہ نمبر 213 پر لکھتے ہیں: ”مسلمان کی غیبت کرنے والے کو روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں روک دینا واجب ہے، روکنا ثوابِ عظیم اور نہ روکنا باعثِ عذاب الیم (یعنی دردناک عذاب کا باعث) ہے“۔ (تفصیل کے لیے صفحہ نمبر 213 تا 213 کا مطالعہ کیجئے، نیز غیبت کرنے والے سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ صفحہ نمبر 214 پر ملاحظہ فرمائیے)

﴿۱۷﴾ پُرانے اسلامی بھائیوں کو ملاقات کے وقت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ”شیطان کے بعض ہتھیار“ اگر موقع ہو تو ہاتھوں ہاتھ پڑھ کر سُنادیں ورنہ تحفہ پیش کر کے 26 گھنٹوں میں پڑھنے کی درخواست کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مدنی نتائج برآمد ہوں گے نیز حسبِ موقع مکتبہ المدینہ سے جاری ہونے والی VCDS اور کتب و رسائل بھی پیش کیے جاسکتے ہیں۔

﴿۱۸﴾ یاد رہے! بحث و فکر سے بچنا ہے، اگر پُرانے اسلامی بھائی، نگران کی تبدیلی وغیرہ پر تشویش کا اظہار کریں تو کتاب ”غیبت کی تباہ کاریاں“ سے صفحہ نمبر 369 تا 372 یا تو ہاتھوں ہاتھ پڑھ کر سُنادیں یا 26 گھنٹوں میں پڑھنے

کی درخواست کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مدنی نتائج برآمد ہوں گے۔

﴿9﴾ مَدَنی قافلہ، مَدَنی انعامات، مختلف کورسز کے ماہانہ اہداف: مجلس کے

ہر سطح کے ذمہ داران اپنے نگران مشاورت کے مشورے سے مَدَنی قافلوں، مَدَنی انعامات، مَدَنی انعامات و مَدَنی قافلہ اور مَدَنی تربیتی کورسز کے ماہانہ اہداف طے کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش فرمائیں۔

﴿10﴾ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب:

#	سطح	ذمہ دار
	ملک	نگران مجلس، مجلس از دیادُحُب
	رکن شوریٰ	مجلس از دیادُحُب

#	سطح	ذمہ دار
1	ڈویژن	ڈویژن ذمہ دار مجلس از دیادُحُب
2	کابینہ	کابینہ ذمہ دار مجلس از دیادُحُب
3	کابینات	کابینات ذمہ دار مجلس از دیادُحُب

﴿1﴾ کابینات ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں، اسی مجلس میں سے ایک مَدَنی انعامات، ایک مَدَنی قافلہ ذمہ دار اور ایک کارکردگی ذمہ دار ہوں گے ﴿2﴾ مختلف ممالک میں ملکی سطح پر مجلس ہوگی، جو رکن شوریٰ کے تحت ہوگی۔ (بیرون ملک والے ذمہ داران، متعلقہ رکن شوریٰ کی اجازت کے بغیر ذمہ دار نہ بنائیں) ﴿3﴾ یاد رہے! کسی بھی سطح کے اراکین و نگران کی تقرری کے لئے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ (امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ہر مجلس میں مَدَنی اسلامی بھائی کے ہونے کو پسند فرماتے ہیں)

﴿11﴾ مَدَنی مشورہ کی تاریخ و مَدَنی پھول:

#	تاریخ	مَدَنی مشورہ لینے والے	سطح	شرکاء	مَدَنی پھول
1	2	نگران کابینہ / کابینہ ذمہ دار	کابینہ	ڈویژن ذمہ داران	انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و ترقی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ
2	5	نگران کابینات / کابینات ذمہ دار	کابینات	کابینہ ذمہ داران	//
3	7	رکن شوریٰ / نگران مجلس	ملک	کابینات ذمہ داران	//

وضاحت: رکن شوریٰ / نگران مجلس، پاکستان سطح کی مجلس کا ہر ماہ مَدَنی مشورہ فرمائیں، ایک ماہ بذریعہ انٹرنیٹ اور ایک ماہ بالمشافہ

✽ کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں: ✽ کاہینہ: 5 ✽ کاہینہ: 6 ✽ ملک: 7

✽ 12 ✽ پاکستان/ بیرون ملک سطح کے ذمہ دار ہر مدنی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی پاکستان انتظامی کاہینہ/ مجلس بیرون ملک مکتب اور متعلقہ رکن شوریٰ کو میل کر دیں۔ (یاد رہے کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں)

✽ 13 ✽ نگران مجلس سے ہر وقت مربوط رہیں، انھیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

✽ 14 ✽ ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول مدنی ماہ کی 19 تاریخ تک اپنے (نگران مشاورت/ نگران مجلس) سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے (نگران مشاورت/ نگران مجلس) کو پیش کرے۔

✽ یاد رہے کہ متعلقہ رکن شوریٰ/ مجلس بیرون ملک ضرورتاً ان مدنی پھولوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

✽ 15 ✽ ذمہ داران اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں:

✽ فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہلسنت، بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں۔

✽ مدنی حلیے ✽ واڑھی، زلفیں، سر پر سبز بزم عمامہ شریف (بزرگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو) کلی والا سفید گرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں ایک بالشت چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمائیاں مسواک، پا جامہ یا شلوار کھنوں سے اوپر (سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کیلئے مدنی انعامات پڑھ کر تے ہوئے کتھی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ) ✽ کی پابندی کریں۔

✽ عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجئے مثلاً مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکر مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسہ المدینہ بالغان، بعد فجر مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندیء وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔

✽ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کے ساتھ ساتھ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ

میں 30 دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بناتے رہیں۔

✽ بلا ناغہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظورِ نظر اور محبوب بننے کی سعی جاری رکھیے۔ استقامت پانے کے لئے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے نیز ضروری گفتگو کم لفظوں میں کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بنائیے۔

✽ مرکزی مجلسِ شوریٰ، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بروقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔

✽ اراکینِ مجلس، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں نیز ہفتہ وار Live مدنی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجاء ہے۔

✽ دورانِ مدنی کام و ملاقات امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطار یہ میں مرید/طالب بنانے کی کوشش کرتے رہیں، مرید/طالب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطار یہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطار یہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں۔

✽ مدنی کام استقامت کے ساتھ کرنے کے لئے بالخصوص مدنی انعام نمبر 24 اور 26 کے عامل بن جائیں ✽ مدنی انعام نمبر 24: کیا آج آپ نے مرکزی مجلسِ شوریٰ، کابینات، مشاورتیں و دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان کی (شریعت کے دائرے میں رہ کر) اطاعت فرمائی ✽ مدنی انعام نمبر 26: کسی ذمہ دار (یا عام اسلامی بھائی) سے برائی صادر ہو جائے

اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہِ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عزَّوَجَلَّ بلا اجازتِ شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟

مرکزی مجلسِ شوریٰ ﴿دعوتِ اسلامی﴾

مَدَنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دُنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

تاریخِ اجراء: ۱۸ ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ ۱۴۳۵ھ، ۱۴ اکتوبر 2014ء